

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

پاکستان افغانستان میں امن کے لیے نئے فریم ورک کے تحت افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے اچھی اہم ہے۔ جو نئی خاطر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پر وہی برہنہ ساری ملک ہونے کے ساتھ جو نئی خاطر، ساری باتوں میں جسے ہونے ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ ہی دونوں کا ٹھکانا ایک دوسرے ہے اور دونوں ملک گمراہ بھی نہیں تھے۔ پاکستان کا موقف و رد اہل سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے اس موقف کی عین عین بھی کرتا ہے اس ضمن میں عین نے کہا ہے کہ افغان تنازعہ افغان قبائل میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور عین شریک شراکت واری کے لیے افغان تنازعہ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار کریں گے۔

The ^P peace in Afghanistan

is important for the peace in Pakistan. Due to Islamic neighb brotherhood, of Pakistan and Afghanistan are ~~being~~ integrated on the basis such as historical, cultural and brotherhood in the ~~not~~ ^{past}, historical past. Their relationship are ^{is} the example of brotherhood, they cannot ^{separate} and live without ^{each other}. From the first day, Pakistani ^{stance} ^{that} motive is the political stability is the solution of ^{Afghan} a problem of ~~Afghan~~. China ^{supports} support Pakistan at this motive. According to China, peace deal is the solution in - the ^{presence} of Afghan. The ^{partnership} strategic participation of Pakistan and Afghanistan will play a role to solve the problem of Afghan conflict through dialogue.